

تعلقات عامہ دفتر
جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
August 14, 2022

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 'پارٹیشن ہوررز ریمیم برینس ڈے' کے ساتھ نمائش اور میراتھن کا انعقاد

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یوم آزادی سے قبل آج 'ریکالنگ دی ہوررز آف برٹش رول ان پکٹوریل اینڈ پوئیٹک ایفلکشنز' عنوان سے ایک نمائش منعقد کر کے پارٹیشن ہوررز ریمیم برینس ڈے 'منایا۔ پروفیسر نجمہ اختر، شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یونیورسٹی کے پریم چند آرکائیوز اینڈ لٹریچر سینٹر میں اس نمائش کا افتتاح کیا جو مؤرخہ اکتیس اگست دوہزار بائیس تک چلے گی۔ پروگرام کے دوران میں پروفیسر ناظم حسین الجعفری، مسجل جامعہ ملیہ اسلامیہ، یونیورسٹی کا تدریسی اور غیر تدریسی عملہ موجود تھا۔

نمائش میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد، اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت، ہندوستانیوں کی قرار والے مزدوروں کی طرح ہجرت، مدراس طاعون، قحط بنگال، میسور، بنگال، پنجاب اور دہلی کے تکلیف دہ واقعات و حادثات اور تقسیم ہند کی ہولناکیاں جیسے بڑے واقعات دکھائے گئے ہیں نیز بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل اور خواتین سمیت دیگر مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو تصویروں اور شاعری کی تختیوں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ برطانوی حکومت کے دور اقتدار میں برسوں تک جو خوفناک واقعات رونما ہوئے یہ نمائش ان واقعات کی یاد دہانی کراتی ہے۔ ان نظموں میں جدو جہد آزادی کی کہانی بیان کی گئی ہے جن میں کئی نظموں پر انگریزی سرکار نے پابندی لگادی تھی اور بھی ممتاز شعرا کی کتنی ہی نظمیں ہیں جن پر پابندی عائد کردی گئی تھی۔ آج کی نسل کو یہ باتیں 'معلوم ہونی چاہئیں۔

اس سے قبل شیخ الجامعہ نے یونیورسٹی کے ایم اے کے پٹودی اسپورٹس کمپلیس سے میراتھن کو ہری جھنڈی دکھائی۔ این سی سی کے اراکین نے ہاتھوں میں ترنگا لیے میراتھن میں بڑی تعداد میں شرکت کی اور پورے کیمپس کو کور کیا۔

ڈاکٹر ایم۔ اے۔ انصاری آڈی ٹوریم کے سامنے قومی پرچم مؤرخہ پندرہ اگست دوہزار بائیس صبح ساڑھے نو بجے پھرایا جائے گا جس کے بعد فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ جناب وید منی تیواری، سی ای او، نیشنل اسکول ڈولپمنٹ کونسل یوم آزادی جشن تقریبات کے مہمان خصوصی ہوں گے۔

تعلقات عامہ
جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی